

# کیا بیٹی اپنی ماں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟

مجیب: مولانا محمد نوید چشتی عطاری

فتویٰ نمبر: WAT-2664

تاریخ اجراء: 15 شوال المکرم 1445ھ / 24 اپریل 2024ء

## دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

### سوال

کیا بیٹی اپنی ماں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

بیٹی اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور اگر دے گی، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ چند ایسے رشتہ دار ہیں کہ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصول (ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور پر تک آباء و اجداد) اور فروع (بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں نیچے تک اولاد) میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور اگر کوئی ان میں سے کسی کو اپنی زکوٰۃ دے، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان کے علاوہ بھائی، بہن، بھانجے، بھینجے، ساس سسر، بہو داماد وغیرہ سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ وغیرہ صدقات واجبہ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ مستحق (شرعی فقیر غیر ہاشمی) ہوں۔

نوٹ: شرعی فقیر سے مراد وہ شخص ہے، جس کے پاس سونا چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت، حاجتِ اصلیہ سے زائد سامان یا یہ سب مل کر اتنے نہ ہوں، جن کی مالیت ساڑھے باون تو لے چاندی کے برابر ہو یا پھر مذکورہ چیزیں اتنی مالیت کی موجود تو ہیں، لیکن قرض کی ادائیگی کے بعد ساڑھے باون تو لے چاندی کی مالیت سے کم مال بچے گا، تو ایسا شخص شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے! عباسی، اعمان اور علوی کا شمار بھی بنو ہاشم میں سے ہوتا ہے، لہذا جس طرح سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، انہیں بھی نہیں دے سکتے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”ولا یدفع الی أصله، وإن علا، وفرعه، وإن سفل کذا فی الکافی“ ترجمہ: اپنی اصل اگرچہ کتنی ہی اوپر ہو اور اپنی فرع اگرچہ کتنی ہی نیچی ہو، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جیسا کہ کافی میں ہے۔ (فتاویٰ ہندیہ، ج 1، ص 188، دار الفکر بیروت)

بہار شریعت میں ہے ”اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیر ہم جن کی اولاد میں یہ ہے اور اپنی اولاد بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیر ہم کو زکاۃ نہیں دے سکتا۔ (بہار شریعت، ج 1، حصہ 5، ص 927، مکتبۃ المدینہ)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



**Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)**



[www.daruliftaahlesunnat.net](http://www.daruliftaahlesunnat.net)



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



[feedback@daruliftaahlesunnat.net](mailto:feedback@daruliftaahlesunnat.net)